

Habib Bank Limited,
_____Branch.

Date

IMPORTANT: Read this document carefully if you are considering opening a new account. It is available in English and Urdu. You may also use this document to compare different accounts offered by other banks. You have the right to receive KFS from other banks for comparison.

Account Types & Salient Features

This information is accurate as of the date above. Services, fees and mark up rates may change Half Yearly (30-06-2025) basis. For updated fees/charges, you may visit our website or visit our branches.

HBL Premium Proposition

Please note that Key Fact Statement for Premium will be applicable over and above a deposit account product subscribed. This deposit account will be termed as 'base account' and Premium tagging will over-ride base account benefits and charges. Key Fact Statement of the base account will also be signed along with Premium Key Fact Statement. For more details regarding HBL Premium, please visit our website www.hbl.com or visit any HBL Premium Touchpoint.

Particulars		Conventional
		HBL Premium Current Deposit Accounts
Currency (PKR, USD, EUR, etc.)		PKR, USD, EUR, GBP
Minimum Balance for Account (If any, provide the amount)	To open	PKR 2,000,000 or equivalent foreign currency
	Quarterly Avg Balance	PKR 2,000,000 or equivalent foreign currency
Is profit paid on account (Yes/No) (Subject to the applicable tax rate)		No
Indicative Profit Rate (%)		Not Applicable
Profit Payment Frequency (Daily, Monthly, Quarterly, Half-yearly and Yearly)		Not Applicable
Provide example (On each PKR 1000, you can earn PKR ----- on given periodicity)		Not Applicable
Premature/Early Encashment/Withdrawal Fee (If any, provide amount/rate)		Not Applicable

Other criteria/ Assets Under Management (AUM): Mutual Funds - (PKR 20 Mn OR PKR 10 Mn with PKR 1 Mn CA), Single Premium - (PKR 10 Mn), Bancassurance - (PKR 500,000 with PKR 1 Mn), Mortgage Financing - (PKR 20 Mn)

*As Per Base Account refers to the deposit account selected in the deposit accounts' Key Fact Statement. Particulars of the same account will be followed.

*** The Premium Account(s) will be downgraded to a regular account(s) if the balance is not maintained in accordance with the Premium Pre-Defined Criteria which is defined here and in SOBC.

**Service Charges

IMPORTANT: This is a list of the main service charges for this account. It does not include all charges. You can find full list available of all bank charges (SoBC) at our branches, visit our website www.hbl.com or call 111-444-425 HBL 24 hours Premium Phone Banking. Please note that all bank charges are exclusive of applicable taxes.

Services	Modes	Conventional
		HBL Premium Current Deposit Accounts
Cash Transaction	Inter-city	0
	Intra-city	As Per Base Account*
	Own ATM withdrawal	0
	Other Bank ATM	As Per Base Account*
SMS Alerts	ADC/Digital	As Per Base Account*
	Clearing	As Per Base Account*
	For other Transactions	As Per Base Account*
Debit Cards	Master World	50% Waived
Cheque Book First Free	Issuance	As Per Base Account*
	Stop Payment	As Per Base Account*
	Loose Cheque	As Per Base Account*

*As Per Base Account refers to the deposit account selected in the deposit accounts' Key Fact Statement. Particulars of the same account will be followed.

Services	Modes	Conventional
		HBL Premium Current Deposit Accounts
Remittance (Local)	Banker Cheque/Pay Order	0
Remittance Foreign	Foreign Demand Draft	As Per Base Account*
	Wire Transfer	As Per Base Account*
Statement of Account	Annual	As Per Base Account*
	Half-yearly	As Per Base Account*
	Duplicate	As Per Base Account*
Funds Transfer	ADC/Digital Channels	As Per Base Account*
	Others	As Per Base Account*
Digital Banking	Internet Banking subscription (onetime & annual)	As Per Base Account*
	Mobile Banking subscription (onetime & annual)	As Per Base Account*
Clearing	Normal	As Per Base Account*
	Inter-city	As Per Base Account*
	Same Day	As Per Base Account*
Closure of Account	Customer Request	As Per Base Account*

You Must Know

Requirements to open an account: To open the account you will need to satisfy some identification requirements as per regulatory instructions and Bank's internal policies. These may include providing documents and information to verify your identity. Such information may be required on a periodic basis. For more information, you can visit any of our Premium lounges, call our 24-hour Premium helpline at 111-444-425 or log on to www.hbl.com

Cheque Bounce: Dishonouring of cheques is a criminal offence under Section 489-F of the Pakistan Penal Code of 1860 and Section 20 of the Financial Institutions (Recoveries Of Finance) Ordinance of 2001; and is subject to a criminal trial in Pakistan. Accordingly, you should be writing cheques with utmost prudence.

Safe Custody: Safe custody of access tools to your account like ATM cards, PINs, cheques, Digital banking usernames, passwords, other personal information, (such as DOB, Mother's Maiden Name etc.) is your responsibility. Bank cannot be held responsible in case of a security lapse at the customer's end. HBL never calls you to ask for your personal information from any number including 111-111-425 or 111-444-425. HBL will never ask for your sensitive information (password, debit card #, PIN, CNIC, OTP, CVV) via call, SMS or email. Kindly do not disclose details to anyone. Be extra vigilant and do not provide any sensitive information (PIN/password/CNIC/ATM/credit card #) over the internet, telephone, SMS email, or social media.

Record Updation: Always keep profiles/records updated with the Bank to avoid missing any significant communication. You can contact your relevant HBL branch or HBL Premium Touchpoint to update your information, or call 111-444-425 HBL 24 hours Premium Phone Banking or visit www.hbl.com for more details.

What happens if you do not use this account for a long period? If your account remains inoperative for 12 months, it will be treated as inactive/ dormant. If your account becomes dormant, you will be unable to execute any debit transaction till the account is activated. To reactivate your account, you can visit any HBL branch with (renewed ID Documents) or call HBL Contact Center 111-444-425 to update records and reactivate your account*. Overseas customer to email at HYPERLINK "mailto:bio.verify@hbl.com" bio.verify@hbl.com to get guidance for reactivation of their account(s). * Customer may still be required to visit his/ her HBL parent branch for account reactivations in exceptional cases as may be advised by branch staff or HBL Contact Center representative. For further information, you may contact any nearest HBL Branch or call HBL Contact Center 111-444-425

Unclaimed Deposits: In terms of Section 31 of Banking Companies Ordinance, 1962 all deposits which have not been operated during the period of last ten years, except deposits in the name of a minor or a Government or a court of law, are surrendered to State Bank of Pakistan (SBP) by the relevant banks, after meeting the conditions as per provisions of law. The surrendered deposits can be claimed through the respective banks. For further information, please contact Branch Manager/Branch Operations Manager of your parent HBL branch.

Account Closure: In order to close your account, please follow bank laid down internal procedures, individual customer for further guidance should contact nearest HBL branch manager/Branch operation manager. For company account please contact your parent branch.

Please note that: 'As Per Base Account' refers to the deposit account selected in the deposit accounts' Key Fact Statement. Particulars of the same account will be followed.

How can you get assistance or make a complaint?

Habib Bank Limited,
Complaint Management Unit
9th Floor, HBL Plaza,
I.I Chundrigar Road,
Karachi, Pakistan
Helpline: 021-111-444-425
For Inquiries: customer.care@hbl.com
For Complaints: customer.complaints@hbl.com
Website: www.hbl.com

If you are not satisfied with our response, you may contact :

If the Bank resolution is not satisfactory or there is no response provided within 45 days, then a complaint may be filed with the Banking Mohtasib Pakistan.
<https://www.bankingmohtasib.gov.pk/complaints.php>

or drop a written complaint at,
Banking Mohtasib, Pakistan
5th Floor, Shaheen Complex, M.R. Kiyani Road, Karachi
Tel No.: 92-21-99217334-38
Email: Info@bankingmohtasib.gov.pk
Website: www.bankingmohtasib.gov.pk

(Portion to be used for the post-shopping stage)

I ACKNOWLEDGE RECEIVING AND UNDERSTAND THIS KEY FACT STATEMENT

Customer Name	<input type="text"/>	Date	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Base Product Chosen	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Mandate of Account	<input type="text"/>	Single/Joint/Either or Survivor							
Address	<input type="text"/>								
Contact No.	<input type="text"/>	Mobile No.	<input type="text"/>			Email Address	<input type="text"/>		
Customer Signature	<input type="text"/>				Signature Verified	<input type="text"/>			

I confirm that I have received a copy of the Key Fact Statement

تاریخ
Y Y Y Y M M D D
سال مہینہ دن

حبیب بینک لمیٹڈ

برانچ _____

اہم: اگر آپ نیا اکاؤنٹ کھولنا چاہتے ہیں تو اس دستاویز کو بغور پڑھیں۔ یہ انگریزی اور اردو میں دستیاب ہے۔ دوسرے بینکوں کی جانب سے مختلف اکاؤنٹس کے لیے پیش کی جانے والی آفر کا موازنہ کرنے کے لیے بھی آپ اس دستاویز کا استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کو موازنہ کرنے کے لیے دوسرے بینکوں سے KFS وصول کرنے کا حق حاصل ہے۔

اکاؤنٹ کی اقسام اور نمایاں خصوصیات

یہ معلومات مندرجہ بالا تاریخ تک درست ہے۔ خدمات، فیسیں اور مارک اپ کی شرحیں ششماہی (30 جون 2025) کی بنیاد پر تبدیل ہو سکتی ہے۔ اپ ڈیٹ شدہ فیس اجازت کے لیے، آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں یا ہماری برانچز پر تشریف لاسکتے ہیں۔

HBL پرمیئم پراپوزیشن

براہ کرم نوٹ فرمائیں کہ پرمیئم کے لیے کی فیٹ اسٹیٹمنٹ کا اطلاق سبسکرائب کیے گئے ڈپازٹ اکاؤنٹ پراڈکٹ کے اوپر ہوگا۔ اس ڈپازٹ اکاؤنٹ کو ہمیں اکاؤنٹ شمار کیا جائے گا اور پرمیئم ٹیلنگ کے سبب ہیں اکاؤنٹ کے فوائد اور چارجز تبدیل اور کم یا زیادہ ہوں گے۔

پرمیئم کی فیٹ اسٹیٹمنٹ کے ساتھ ہیں اکاؤنٹ کی فیٹ اسٹیٹمنٹ پر بھی دیکھ لیں گے۔

HBL پرمیئم کے حوالے سے مزید معلومات کے لیے برائے مہربانی ہماری ویب سائٹ www.hbl.com کا وزٹ کریں یا کسی بھی HBL پرمیئم سٹاپ پوائنٹ کا وزٹ کریں۔

تفصیلات	سہولتیں
کرنسی (روپیہ، امریکی ڈالر، یورو، وغیرہ)	روپے، امریکی ڈالر، یورو، برطانوی پاؤنڈ
اکاؤنٹ کے لیے کم سے کم بیلنس (اگر کوئی ہے تو، اس حوالے سے بتائیں)	اکاؤنٹ کے لیے کھولنے کے لیے 2,000,000 روپے یا اس کے برابر فیٹ کرنسی
کیا منافع اکاؤنٹ پراڈاکٹ کیا جاتا ہے (ہاں/نہیں) (قابل اطلاق ٹیکس کی شرح سے مشروط ہے)	2,000,000 روپے یا اس کے برابر فیٹ کرنسی
انڈیکسڈ پرافٹ ریٹ (%)	نہیں
پرافٹ ہیمینٹ فریکوئنسی (روزانہ، ماہانہ، سہ ماہی، ششماہی اور سالانہ)	نا قابل اطلاق
فراہم کردہ مثال: (ہر 1000 روپے پر، آپ مقررہ معیار میں۔۔۔۔۔ روپے کما سکتے ہیں)	نا قابل اطلاق
پری میچور اریٹی ٹیکسٹ اوڈھ ڈرال فیس (اگر کوئی ہے تو، رقم/شرح مہیا کریں)	نا قابل اطلاق

دیگر معیارات/زیارت نظام اثاثہ جات (AUM): میوچل فنڈز۔ (20 ملین روپے یا 10 ملین روپے بعد 1 ملین روپے سی اے) ہینگل پرمیئم۔ (10 ملین روپے)، بینکا ٹورنس۔ (5 لاکھ روپے بعد 1 ملین روپے سی اے)، مورگن فنانسنگ۔ (20 ملین روپے)

** ہمیں اکاؤنٹ کے مطابق سے مراد ڈپازٹ اکاؤنٹ کی فیٹ اسٹیٹمنٹ میں منتخب کردہ ڈپازٹ اکاؤنٹ ہے۔ اسی اکاؤنٹ کی تفصیلات کو فائل کیا جائے گا۔

اگر پہلے سے طے شدہ پرمیئم معیار کے مطابق بیلنس برقرار نہیں رکھا جاتا ہے جس کی وضاحت یہاں اور SOBC میں کی گئی ہے تو پرمیئم اکاؤنٹ (اکاؤنٹس) کو ریگولر اکاؤنٹ (اکاؤنٹس) میں ڈاؤن گریڈ کیا جائے گا۔

** سروس چارجز

اہم: یہ اس اکاؤنٹ کے لیے مرکزی سروس چارجز کی ایک فہرست ہے۔ اس میں تمام چارجز شامل نہیں ہیں۔ آپ ہماری برانچز یا ہماری ویب سائٹ www.hbl.com سے یا 24 گھنٹے پرمیئم فون ہیلپ لائن 111-444-425 پر کال کر کے تمام بینک چارجز (SoBC) کی مکمل فہرست حاصل کر سکتے ہیں۔ براہ کرم نوٹ فرمائیں کہ تمام بینک چارجز قابل اطلاق ٹیکس کے علاوہ ہیں۔

سرورسز	موڈز	سہولتیں
کیش ٹرانزیکشن	انٹرنیٹ	0
	انٹرا-سٹی	ہمیں اکاؤنٹ کے مطابق*
	اپنے ATM سے وودھ ڈرال	0
ایس ایم ایس الرٹس	دوسرے بینک ATM	ہمیں اکاؤنٹ کے مطابق*
	ADC/ڈیجیٹل	ہمیں اکاؤنٹ کے مطابق*
ڈیجیٹل کارڈز	کلیئرنگ	ہمیں اکاؤنٹ کے مطابق*
	دوسرے ٹرانزیکشنز کے لیے	ہمیں اکاؤنٹ کے مطابق*
چیک بک کاپی بارمفت	ماسٹر ورلڈ	50% چھوٹ
	اجرا	ہمیں اکاؤنٹ کے مطابق*
	انسٹا پیمنٹ	ہمیں اکاؤنٹ کے مطابق*
	لوڈ چیک	ہمیں اکاؤنٹ کے مطابق*

** ہمیں اکاؤنٹ کے مطابق سے مراد ڈپازٹ اکاؤنٹ کی فیٹ اسٹیٹمنٹ میں منتخب کردہ ڈپازٹ اکاؤنٹ ہے۔ اسی اکاؤنٹ کی تفصیلات کو فائل کیا جائے گا۔

سروسز	موڈز	کنٹنٹ
ریٹیننس (مقامی)	بینکر چیک / پے آرڈر	HBL پریمیم کرنٹ ڈپازٹ اکاؤنٹس
ریٹیننس (غیر ملکی)	فارن ڈیپازٹ / وائر ٹرانسفر	0
اکاؤنٹ کی اسٹیٹمنٹ	سالانہ	بیس اکاؤنٹ کے مطابق*
	ششماہی	بیس اکاؤنٹ کے مطابق*
	تفصیلی	بیس اکاؤنٹ کے مطابق*
	ADC / ڈیجیٹل چینل	بیس اکاؤنٹ کے مطابق*
فٹرز ٹرانسفر	دیگر	بیس اکاؤنٹ کے مطابق*
	انٹرنیٹ بینکنگ سبسکریپشن (ایک بار اور سالانہ)	بیس اکاؤنٹ کے مطابق*
ڈیجیٹل بینکنگ	موبائل بینکنگ سبسکریپشن (ایک بار اور سالانہ)	بیس اکاؤنٹ کے مطابق*
	نارل	بیس اکاؤنٹ کے مطابق*
کلیرنگ	انٹرنیٹ	بیس اکاؤنٹ کے مطابق*
	اسی دن	بیس اکاؤنٹ کے مطابق*
	کسٹمر کی درخواست	بیس اکاؤنٹ کے مطابق*

آپ کی لازمی معلومات کے لیے

شرائط پوری کرنے کے بعد، متعلقہ بینکوں کے ذریعے اسٹیٹ بینک آف پاکستان (SBP) کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ متعلقہ بینکوں کے ذریعے حوالے کیے گئے ڈپازٹس کے سلسلے میں دعویٰ کیا جاسکتا ہے۔ برائے مہربانی مزید معلومات کے لیے جس HBL برانچ میں آپ نے اپنا اکاؤنٹ کھلوا یا تھا وہاں کے برانچ منیجر / برانچ آپریٹر منیجر سے رابطہ کریں۔

اکاؤنٹ کی بندش: براہ کرم اپنا اکاؤنٹ بند کرنے کے لئے درج ذیل ہدایات کا خیال رکھیں۔ برائے مہربانی انفرادی اکاؤنٹ ہولڈر مزید رہنمائی کے لئے قریبی برانچ / برانچ آپریٹر منیجر سے رابطہ کریں اور کبھی اکاؤنٹ ہولڈر میں برانچ سے رجوع کریں۔

برائے مہربانی نوٹ فرمائیں: ”بیس اکاؤنٹ کے مطابق“ سے مراد ڈپازٹ اکاؤنٹس کی فیکٹ اسٹیٹمنٹ میں منتخب کردہ ڈپازٹ اکاؤنٹ ہے۔ اسی اکاؤنٹ کی تفصیلات کو فائل کیا جائے گا۔

آپ کس طرح مدد حاصل کر سکتے ہیں یا شکایت کر سکتے ہیں؟

حیب بینک لیبڈ،

کمپلیٹ میٹجمنٹ یونٹ

9 ویں منزل، حیب بینک بلازہ،

آئی۔ آئی۔ چندر بگ روڈ، کراچی، پاکستان۔

ہیلپ لائن: 021-111-444-425

انکوائری کے لیے: customer.care@hbl.com

شکایات کے لیے: customer.complaints@hbl.com

ویب سائٹ: www.hbl.com

اگر آپ ہمارے جواب سے مطمئن نہ ہوں تو، آپ رابطہ کر سکتے ہیں:

اگر بینک کا استیصال اطمینان بخش نہ ہو یا 45 دن کے اندر کوئی جواب نہیں دیا جائے تو بینکنگ محتسب پاکستان کے پاس شکایات درج کرائی جاسکتی ہے۔

<https://www.bankingmohtasib.gov.pk/complaints.php>

یا ایک تحریری شکایات ارسال کر سکتے ہیں،

بینکنگ محتسب، پاکستان

5 ویں منزل، شاہین کپلیکس، ایم آر کینی روڈ، کراچی،

ٹیلیفون نمبر: 92-21-99217334-38

ای میل: info@bankingmohtasib.gov.pk

ویب سائٹ: www.bankingmohtasib.gov.pk

اکاؤنٹ کھولنے کی شرائط: اکاؤنٹ کھولنے کے لیے آپ کو ریگولیری ہدایات اور بینکوں کی اندرونی پالیسیوں کے مطابق شناخت کی کچھ ضروریات کو پورا کرنا ہوگا۔ ان میں آپ کی شناخت کی تصدیق کے لیے دستاویزات اور معلومات کی فراہمی شامل ہو سکتی ہے۔ اس طرح کی معلومات کا وقتاً فوقتاً ضرورت پیش آسکتی ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ برائے مہربانی ہمارے کوئی بھی پریمیم فون لائن ڈنٹ کریں، یا ہمارے 24 گھنٹے پریمیم فون بینکنگ 111-444-425 پر کال کریں، یا ڈنٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.hbl.com

چیک باؤنس: چیکس کی قبولیت سے انکار، 1860 کے پاکستان بینک کوڈ کے سیکشن F-489 اور فنانشل اسٹیٹمنٹ (ریگوری آف فنانس) آرڈیننس 2001 کے سیکشن 20 کے تحت ایک مجرمانہ عمل ہے، اور اس پر پاکستان میں فوجداری مقدمے کا سامنا ہوتا ہے۔ اسی مناسبت سے، آپ کو انتہائی بھمداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے چیک لکھنا چاہیے۔

محفوظ گھمبانی: آپ کے اکاؤنٹ تک رسائی والے آلات کی محفوظ تحویل جیسے ATM کارڈ، این پی (ز)، چیکس، ڈیجیٹل بینکنگ پوزر، پاس ورڈ، ڈیجیٹل معلومات، (جیسے تاریخ پیدائش، ماں کا نام وغیرہ) آپ کی ذمہ داری ہے۔ سٹمر کی جانب سے سیکورٹی کی غلطی کی صورت میں بینک کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جاسکتا ہے۔ HBL کسی بھی نمبرنشون 111-444-425 یا 111-111-425 سے کال کر کے کبھی بھی آپ کی ذاتی معلومات طلب نہیں کرے گا۔ HBL کبھی بھی کال، ایس ایم ایس یا ای میل کے ذریعے آپ کی حساس معلومات (پاس ورڈ، ڈیٹ کارڈ #، پین، سی این آئی، CVV، OTP) طلب نہیں کرے گا۔ برائے مہربانی کسی سے بھی اس طرح کی معلومات کا تبادلہ نہ کریں۔ پوری طرح سے ہوشیار رہیں اور حساس معلومات (پین / پاس ورڈ / سی این آئی / سی / ATM / کریڈٹ کارڈ #) انٹرنیٹ، ٹیلیفون، ایس ایم ایس، ای میل یا سوشل میڈیا کے ذریعے کسی کو بھی فراہم نہ کریں۔

ریکارڈ اپڈیشن: کسی بھی اہم معلومات سے محروم ہونے سے بچنے کے لئے ہمیشہ بینک کے ساتھ پروفاکٹرز / ریکارڈ اپ ڈیٹ رکھیں۔ آپ اپنی معلومات کو اپ ڈیٹ کروانے کے لئے اپنی متعلقہ HBL برانچ یا HBL پریمیم چٹ پوائنٹ تشریف لے جاسکتے ہیں یا

111-444-425 پر HBL 24 گھنٹے پریمیم فون بینکنگ سروس پر کال کر سکتے ہیں یا مزید تفصیلات کے لئے

www.hbl.com ڈنٹ کر سکتے ہیں۔

اگر آپ اس اکاؤنٹ کو طویل عرصے تک استعمال نہیں کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ کا اکاؤنٹ 12 مہینے تک غیر فعال رہتا ہے، تو اسے غیر فعال سمجھا جائے گا۔ اگر آپ کا اکاؤنٹ غیر فعال ہو جاتا ہے، تو آپ اکاؤنٹ کے فعال ہونے تک کوئی ڈیٹ لین دین نہیں کر پائیں گے۔ اپنے اکاؤنٹ کو دوبارہ فعال کرنے کے لیے، آپ (تجدید شدہ شناختی دستاویزات) کے ساتھ کسی بھی HBL برانچ پر جاسکتے ہیں یا HBL رابطہ مرکز 111-444-425 پر کال کر کے ریکارڈ اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں اور اپنا اکاؤنٹ دوبارہ فعال کر سکتے ہیں۔ * بیرون ملک مقیم صارف اپنے اکاؤنٹ (اکاؤنٹس) کو دوبارہ فعال کرنے کے لیے اور مزید رہنمائی حاصل کرنے کے لیے "mailto:bio.verify@hbl.com" HYPERSLINK پر

ای میل کریں۔ * کسٹمر کو اب بھی غیر معمولی معاملات میں اکاؤنٹ کو دوبارہ فعال کرنے کے لیے اپنی HBL بیزنس برانچ جانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے جیسا کہ برانچ کے عملے یا HBL رابطہ مرکز کے نمائندے کے ذریعہ مشورہ دیا جاسکتا ہے۔ مزید معلومات کے لیے، آپ کسی بھی قریبی HBL برانچ سے رابطہ کر سکتے ہیں یا HBL رابطہ مرکز 111-444-425 پر کال کر سکتے ہیں۔

غیر دھوکے ڈھانڈے ڈپازٹس: بینکنگ کیٹیز آرڈیننس، 1962 کے سیکشن 31 کی شرائط کے تحت، وہ تمام ڈپازٹس جنہیں گزشتہ دس سالوں کے دوران آپریٹ نہیں کیا گیا، ہوائے اس ڈپازٹ کے جو کسی تاباغ یا حکومت یا عدالت عظمیٰ کے نام ہو، قانون کی دفعات کے مطابق

(یہ حصہ خریداری کے بعد کے مرحلے کے لیے استعمال کیا جائیگا)

میں اس بات کا اقرار کرتا / کرتی ہوں کہ کی فیکٹ اسٹیٹمنٹ مجھے موصول ہوئی اور میں اسے سمجھتا / سمجھتی ہوں

تاریخ	کسٹمر کا نام
Y Y Y Y M M D D سال مہینہ دن	پراڈکٹ کا انتخاب
	اکاؤنٹ کا مینڈریٹ
	پتہ
	رابطہ نمبر
	موبائل نمبر
	ای میل ایڈریس
	کسٹمر کے دستخط
	تصدیق شدہ دستخط

میں تصدیق کرتا ہوں کہ میں نے اہم حقائق کی شیٹ کی کاپی وصول کی ہے۔